

تعلقات عامہ و میڈیا کوآرڈی نیٹر آفس
جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی

February 23, 2021

پریس ریلیز

ہندوستان میں چینی زبان کی تدریس کے مضمرات کے موضوع پر پینل مباحثہ

ایم ایم اے جے اکادمی برائے بین الاقوامی مطالعات کے زیر اہتمام یو جی سی چین مطالعات مرکز جامعہ ملیہ اسلامیہ نے قومی تعلیمی پالیسی ۲۰۲۰: ہندوستان میں چینی زبان کی تدریس کے مضمرات کے موضوع پر مورخہ ۹۱ فروری ۲۰۲۰ء کو بوقت ۳:۰۰ بجے ایک پینل مباحثہ منعقد کیا۔

اجلاس کی صدارت سفیر ٹی سی اے رنگ چاری نے۔ اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے ہندوستان میں چینی مطالعات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی نشان دہی کی کہ ہندوستانی دانش گاہوں میں چینی زبان اور چین کے متعلق تدریس سے چین کے بارے میں بہتر معلومات فراہم ہوں گی۔

اجلاس کے پہلے مقرر پریہ درشی مکھرجی جو چین مطالعات کے جواہر لعل نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں ہندوستان جیسے کثیر لسانی اور کثیر تہذیبی و ثقافتی بوقلمونی پس منظر والے ملک میں قومی تعلیمی پالیسی کے رول کو واضح کرتے ہوئے یہاں کے نوجوانوں کے لیے فعال اور امکانات سے بھرپور بازار پیدا کرنے کے امکانات پر بات چیت کی۔

اجلاس کے دوسری مقرر محترمہ ممتا رانی اگروال ایڈیشنل سیکریٹری ایسوسی ایشن آف انڈین یونیورسٹیز نے قومی تعلیمی پالیسی کے مختلف پہلوؤں پر مبسوط گفتگو کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے ہندوستان میں مساوی اور جامع تعلیمی نظام کے نفاذ کے تصور پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔

اس موقع پر تیسرے اہم مقرر پروفیسر اوجیت بنرجی جو وشو بھارتی یونیورسٹی میں چینی مطالعات کے پروفیسر ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں چینی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور یہ بھی واضح کیا کہ کس طرح صرف زبان سے شناسائی کی وجہ سے نصف چین کو بہتر انداز میں سمجھا جاسکتا ہے اور چین کے دوسرے نصف کو منظم انداز میں سمجھنے کے لیے چین کی تہذیب و ثقافت اور اس کے معاشرے کی ساخت اور بناوٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔

مباحثے میں ملک کے طول و عرض سے سو سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد چینی زبان میں نیٹ امتحان سمیت چین کی تہذیبی شناخت کے مختلف پہلوؤں اور نکات پر خوب سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ہندوستان میں چینی زبان سیکھنے والے طلبا اور اسکالروں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے سلسلے میں نجی اور سرکاری رول پر بھی بات چیت ہوئی۔

پروفیسر اچے درشن بیہرا آفے شیئنگ ڈائریکٹر، ایم ایم اے جے، اکادمی برائے بین الاقوامی مطالعات نے شکریے کی رسم ادا کی۔ انہوں نے ہندوستان میں لینگویج پروگرام اور ایریا اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ملازمت کے بہتر اور واضح تصور کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس نوع کے علوم و فنون کے پروگراموں کو مزید موزوں بنانے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔

احمد عظیم

پی آر او۔ میڈیا کوآرڈی نیٹر

